

اس بنا پر وہ بر طبع اس کے اہل ہیں کہ بخاری حصی مکمل کتاب کا ترجمہ اور تحریکی انگریزی زبان میں کر سکیں۔
ترجمہ کما صرف یہ لاحصہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے جو کتاب الایمان کے خاتمة تک پہنچا ہے۔ صفحہ
کو دھھوں میں تعمیم کیا گیا ہے۔ اور اصل عربی متن اور انگریزی ترجمہ ہے اور نیچے مختصر گر جامع حواشی درج
کی گئے ہیں۔ ہر باب کے آخر میں ایک ضمیرہ درج کیا گیا ہے جس میں ہر ایک حدیث کے متعلق تباہیاں گیلے ہے کہ وہ
خود بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں کہاں آئی ہے۔ اس کے بعد پورے باب پر ایک جائی
تبدیرہ کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ پورے باب کے مطالب اپنی طرح سمجھ لیں۔ ہم نے ترجمہ اور حواشی کو پورے فور
کے ساتھ لفظ بلطف دیکھا۔ ہمارے نزدیک ترجمہ نے سمجھنے اور سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، خصوصاً جیاں میں
انہوں نے جدید و نہیتوں کے مطابق احادیث کی مشکلات کو حل کیا ہے وہ تو انہی کا حصہ ہے۔

ترجمہ ہمارے ملک میں غریب الدیار ہیں، اور انہوں نے اتنی بڑی کتاب کی اشاعت کا بار
اپنے اور پرے کر بڑی سہمت کا انہمار کیا ہے، باب یہ ہماری قوم کے انگریزی دال حضرات کا کام ہے کہ اس
کتاب کو کثرت سے خریدیں تاکہ ترجمہ کا اصل مقصد بھی مال ہو اور ان کو کتاب کی اشاعت میں بھی مدد
پوری کتاب، ۳ حصوں میں شائع ہو گی۔ ہر حصہ کی قیمت ہندوستان اور سیلوں میں عیار۔ حاکم غیر کے لئے
چار شنگ لٹنے کا پتہ: عرفات پبلیکیشنز۔ سری انگر کشمیر۔

Alif Jaba' Fazl Kريم خاں صاحب دہلی نصیحت۔ ۰۶ صفحات قیمت
Mohammad the Prophet

دروپیہ۔ لٹنے کا پتہ:۔ ذفتر اخبار ٹر نخ، ریلوے روڈ، لاہور۔

یہ کتاب دراصل بنی مسلم ائمہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، بلکہ سیرت پر ایک تحقیقانہ تبصرہ ہے۔ دو
الفاظ میں ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ ایک صاحب قرآن تا پنج عالم کے پورے مرقع میں اسلام کے آخری
اور سب سے بڑے داعی کی سیرت، اس کی شخصیت، اس کی تعلیم اور اس کے اثرات کا مطالعہ کر کے جن
پہنچا ہے ان کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ سیرت نبوی پر اب تک بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں،